



سوال

نماز میں وسوسوں کا علاج

جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

میں ایک عورت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو فرض کیا ہے ان کو بحال تی ہوں البتہ میں نماز میں بہت بھول جاتی ہوں تو دن بھر کے حالات و واقعات کا نماز میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ خیال نماز شروع کرتے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ جب تک میں قراءت جری شروع نہیں کر دیتی براہ کرم راہنمائی فرمائیں۔ کہ ان وسوسوں سے کیسے نجات پانی جائے؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته!
الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

یہ معاملہ جو تمہیں درپیش ہے۔ یہ بہت سے نمازوں کو درپیش ہے۔ اور یہ اس لئے کہ شیطان انسان کی نماز میں وسوسوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچاتی ہے کہ یہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کہ وہ اپنی نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہنمائی فرمائی ہے۔ کہ انسان اپنی بائیں طرف تین بار تھوکے اور کے ((اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) ایسا کرنے ان شاء اللہ و سو سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز شروع کرتے وقت یہ تصور کرے کہ وہ لپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں حاضر اور س ذات گرامی سے ہم کلام ہے۔ اور تکبیر و تعظیم اس کے پاک کلام کی تلاوت اور نماز کے مقامات دعاء میں دعاء کے ساتھ تقریب الہی کے حصول کی کوشش کرے۔ انسان میں جب یہ شعور بیدار ہو تو وہ یقیناً لپنے رب کی بارگاہ قدس میں نشوون و خضوع سے حاضر ہو گا اس کی تعظیم بجا لائے گا اس کے پاس جو خیر و بخلائی ہے اس سے محبت کرے گا اور فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کی صورت میں اس کے عذاب سے خالف ہو گا۔

حدا ما عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 381



جعفریہ اسلامیہ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL
امیر

محدث فتویٰ